

7	יְהוָה	בְּרַצוֹנָה	הַעֲמִדְתָּהּ	לְהַרְרֵי	עָז	הַסְתַּרְתָּ	פָּנֶיךָ	הִיטִי	נִבְחַל:
	یہوواہ	-اپنی-رضاً-سے	ٹو-نے-قائم-کیا	-میرے-پہاڑ-کے-لیے	قوت	ٹو-نے-چھپایا	اپنا-چہرہ	میں-بو-گیا	پریشان
	H3068	H7522	H5975	H2042	H5797	H5641	H6440	H1961	H0926

گیا۔ گھبرا سخت میں تو لیا چھپا سے مجھ چہرہ اپنا نے ٹو جب لیکن دیا۔ رکھ پر پہاڑ مضبوط مجھے نے ٹو تو تھا خوش سے مجھ ٹو جب رب، اے

8	אֱלֹהֵי	יְהוָה	אֶקְרָא	וְאֶל-	אֲדַבֵּר	אֶתְחַנֵּן:
	-تیری-طرف	یہوواہ	میں-پکارتا-ہوں	اور-کی-طرف	خداوند	میں-مناجات-کرتا-ہوں
	H0413	H3068	H7121	H0413	H0136	

کی، التجا نے میں سے خداوند ہاں پکارا، تجھے نے میں رب، اے

9	מָה-	כִּצְעָה	בְּדַמִּי	בְּרַדְתִּי	אֶל-	שָׁחַת	הַיּוֹדֵךָ	עָפָר
	کیا	فائدہ	-میرے-خون-میں	-میرے-اُترنے-میں	-کی-طرف	گڑھے	کیا-خاک-تیری-حمد-کرے-گی	خاک
	H4100	H1215	H1818	H3381	H0413	H7845	H3034	H6083

הַיּוֹדֵךָ
-کیا-بیان-کرے-گی
تیری-سچائی
[H0571](#)
[H5046](#)

گی؟ بتائے میں بارے کے وفاداری تیری کو لوگوں وہ کیا گی؟ کرے ستائش تیری خاک کیا جاؤں؟ اُتر میں گڑھے کے موت کر ہو ہلاک میں اگر بے فائدہ

10	שָׁמַע-	יְהוָה	וַחֲנִנִי	יְהוָה	עֲזָר-	לִי:
	سُن	یہوواہ	اور-رحم-کر-مجھ-پر	یہوواہ	مددگار	-میرے-لیے
	H8085	H3068	H3068	H1961	H5826	

آئیے کے کرنے مدد میری رب، اے کر۔ مہربانی پر مجھ سن، میری رب، اے

11	הַפְּכֶתָ	מִסְפְּרִי	לְמַחֲזֵל	לִי	פְתַחְתָּ	שָׁקִי	וַחֲאֲזִרְנִי	שָׂמַחְתָּ:
	ٹو-نے-بدلا	میرے-ماتم-کو	-رقص-میں	-میرے-لیے	ٹو-نے-کھولا	میرا-ٹاٹ	اور-پہنایا-مجھے	خوشی
	H2015	H4553	H4234		H8242	H0247	H8057	

کیا۔ ملبس سے شادمانی مجھے کر اُتار کپڑے ماتمی میرے نے ٹو دیا، بدل میں ناچ کے خوشی ماتم میرا نے ٹو

12	אֲלֵמֵן	יִזְכְּרֶךָ	כְּבוֹד	וְלֹא	יָדַם	יְהוָה	לְעוֹלָם	אֲזַדְרֶךָ:
	-تاکہ	تیری-حمد-کرے	جلال	اور-نہیں	خاموش-رہے	یہوواہ	میرے-خدا	میں-تیرا-شکر-کروں-گا
	H4616	H2167	H3519	H3808	H3068	H0430	H5769	H3034

گا۔ کروں ثنا و حمد تیری تک ابد میں خدا، میرے رب اے رہے۔ کرتی تمجید تیری کر گا گیت بلکہ ہو نہ خاموش جان میری کہ بے چاہتا ٹو کیونکہ